

# 1Jn

## Chapter 3

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ Πατὴρ, ἵνα τέκνα Θεοῦ  
دیکھو کیسی محبت دی ہے ہمیں کا باپ، تاکہ فرزند خدا کے  
G3708 G4217 G0026 G1325 G1473 G3588 G3962 G2443 G5043 G2316
- κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο, ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι  
کہلائیں، اور ہیں۔ کے ذریعے، اس، کی دنیا نہیں جانتی ہمیں، کیونکہ  
G2564 G2532 G1510 G1223 G3778 G3588 G2889 G3756 G1097 G1473 G3754
- οὐκ ἔγνω αὐτόν.  
نہیں جانا اُسے۔  
G3756 G1097 G0846

تو وہ جانتی۔ نہیں ہمیں دنیا لئے اس بھی۔ ہیں واقعی ہم اور ہیں۔ کہلاتے فرزند کے اللہ ہم کہ تک یہاں ہے، کی محبت کتنی سے ہم نے باپ کہ دیں دھیان جانتی۔ نہیں بھی اُسے

- 2 Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὕτως ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα;  
پیاروں، اب فرزند خدا کے ہیں، اور ابھی تک ظاہر نہیں ہوا کیا ہوں گے؛  
G0027 G3568 G5043 G2316 G1510 G2532 G3768 G5319 G5101 G1510
- οἶδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὁψόμεθα αὐτόν  
جانتے ہیں کہ اگر ظاہر ہو، مانند اُس کے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں گے اُسے  
G1492 G3754 G1437 G5319 G3664 G0846 G1510 G3754 G3708 G0846
- καθὼς ἐστίν.  
جیسا ہے۔  
G2531 G1510

کی اُس ہم تو گا جائے ہو ظاہر وہ جب کہ ہیں جانتے ہم اتنا لیکن ہے۔ ہوا نہیں ظاہر تک ابھی وہ گے ہوں ہم کچھ جو اور ہیں، فرزند کے اللہ ہم اب عزیزو، ہے۔ وہ جیسا گے کریں ہی ویسے مشاہدہ کا اُس ہم کیونکہ گے۔ ہوں مانند

- 3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ' αὐτῷ, ἀγνίζει ἑαυτόν,  
اور ہر کا رکھنے والا کی امید یہ پر اُس، پاک کرتا ہے آپ کو،  
G2532 G3956 G3588 G2192 G3588 G1680 G3778 G1909 G0846 G0048 G1438
- καθὼς ἐκεῖνος ἀγνός ἐστίν.  
جیسے وہ پاک ہے۔  
G2531 G1565 G0053 G1510

ہے۔ خود مسیح جیسا ہی ویسے ہے، رکھتا صاف پاک کو آپ اپنے وہ ہے رکھتا اُمید یہ میں مسیح بھی جو

- 4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν, καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ; καὶ ἡ  
ہر کا کرنے والا کی گناہ، بھی کی ہے شریعتی؛ اور کا  
G3956 G3588 G4160 G3588 G0266 G2532 G3588 G0458 G4160 G2532 G3588
- ἀμαρτία ἐστίν ἡ ἀνομία.  
گناہ ہے کی ہے شریعتی۔  
G0266 G1510 G3588 G0458

ہے۔ ہی ورزی خلاف کی شریعت گناہ ہاں، ہے۔ کرتا ورزی خلاف کی شریعت وہ ہے کرتا گناہ جو

5 καὶ οἶδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρη; καὶ ἁμαρτία  
اور گناہ اور اٹھائے؛ گناہوں کو- تاکہ ظاہر-ہوا، وہ کہ جانتے-ہو G2532 G1492 G3754 G1565 G5319 G2443 G3588 G0266 G0142 G2532 G0266

ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.  
میں اس میں نہیں ہے۔  
G1722 G0846 G3756 G1510

بے-نہیں گناہ میں اس اور ہوا۔ ظاہر لئے کے جانے لے اٹھا کو گناہوں ہمارے عیسیٰ کہ ہیں جانتے آپ لیکن

6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ, ἀμαρτάνει; πᾶς ὁ ἀμαρτάνων, οὐχ  
ہر کا- میں اس رہنے-والا نہیں، گناہ-کرتا؛ ہر کا- گناہ-کرنے-والا، نہیں  
G3956 G3588 G1722 G0846 G3306 G3756 G0264 G3956 G3588 G0264 G3756

ἐώρακεν αὐτόν, οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.  
دیکھا-ہے دیکھا، اسے، نہ-اور ہے جانا-ہے اسے۔  
G3708 G0846 G3761 G1097 G0846

بے-جانا اسے نہ ہے، دیکھا اسے نے اس تو نہ ہے رہتا کرتا گناہ جو اور کرتا۔ نہیں گناہ وہ ہے رہتا قائم میں اس جو

7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς; ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, δίκαιός ἐστιν,  
بچوں، کوئی دھوکہ-نہ-دے تمہیں؛ کا- کرنے-والا کی- راستبازی، راست ہے،  
G5040 G3367 G4105 G4771 G3588 G4160 G3588 G1343 G1342 G1510

καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν.  
جیسے وہ راست ہے۔  
G2531 G1565 G1342 G1510

بے-باز راست جیسا مسیح ہاں باز، راست وہ ہے کرتا کام راست جو دے۔ ہٹا سے راہ صحیح کو آپ وہ کہ دیں نہ اجازت کو کسی بچو، پیارے

8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν; ὅτι ἀπ' ἀρχῆς ὁ  
کا- کرنے-والا کی- گناہ، سے- کے- ابلیس کیونکہ ہے؛ سے- ابتدا کا-  
G3588 G4160 G3588 G0266 G1537 G3588 G1228 G1510 G3754 G0575 G0746 G3588

διάβολος ἀμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ  
ابلیس گناہ-کرتا-ہے۔ کے-لیے اس ظاہر-ہوا کا- بیٹا کے- خدا، تاکہ توڑ-دے  
G1228 G0264 G1519 G3778 G5319 G3588 G5207 G3588 G2316 G2443 G3089

τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.  
کو- کاموں کے- ابلیس۔  
G3588 G2041 G3588 G1228

کرے۔ تباہ کام کا ابلیس کہ ہوا ظاہر لئے اسی فرزند کا اللہ ہے۔ آیا کرتا گناہ سے ہی شروع ابلیس کیونکہ ہے، سے ابلیس وہ ہے کرتا گناہ جو

9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα  
ہر کا- پیدا-ہوا سے- کے- خدا، گناہ نہیں کرتا، کیونکہ بیج  
G3956 G3588 G1080 G1537 G3588 G2316 G0266 G3756 G4160 G3754 G4690

αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ  
اس-کا میں اس رہتا-ہے، اور نہیں کر-سکتا گناہ-کرتا، کیونکہ سے- کے- خدا  
G0846 G1722 G0846 G3306 G2532 G3756 G1410 G0264 G3754 G1537 G3588 G2316

γεγέννηται.  
پیدا-ہوا-ہے۔  
G1080

اللہ وہ کیونکہ سکتا نہیں ہی کر گناہ وہ ہے۔ رہتی میں اس فطرت کی اللہ کیونکہ گا، کرے نہیں گناہ وہ ہے گیا بن فرزند کا اس کر ہو پیدا سے اللہ بھی جو  
بے-گیا بن فرزند کا اس کر ہو پیدا سے

- 10 ἐν τούτῳ, φανερά ἐστὶν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ τέκνα τοῦ  
 میں اس، ظاہر ہیں کہ فرزند کے خدا، اور کے فرزند کے  
[G1722](#) [G3778](#) [G5318](#) [G1510](#) [G3588](#) [G5043](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5043](#) [G3588](#)
- διαβόλου: πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ;  
 ابلیس: ہر کا نہ کرنے والا، راستبازی، نہیں ہے سے خدا؛  
[G1228](#) [G3956](#) [G3588](#) [G3361](#) [G4160](#) [G1343](#) [G3756](#) [G1510](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2316](#)
- καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.  
 اور کا نہ محبت کرنے والا کے بھائی اپنے۔  
[G2532](#) [G3588](#) [G3361](#) [G0025](#) [G3588](#) [G0080](#) [G0846](#)

نہیں فرزند کا اللہ وہ ہے، رکھتا محبت سے بھائی اپنے نہ کرتا، نہیں کام راست جو کون: فرزند کے ابلیس اور ہیں کون فرزند کے اللہ کہ ہے چلتا پتا سے اس ہے۔

- 11 ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν  
 کیونکہ یہ ہے کا پیغام جو سنا ہے سے ابتدا، تاکہ محبت کریں  
[G3754](#) [G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0031](#) [G3739](#) [G0191](#) [G0575](#) [G0746](#) [G2443](#) [G0025](#)
- ἀλλήλους;  
 ایک دوسرے سے؛  
[G0240](#)

ہے۔ رکھنا محبت سے دوسرے ایک ہمیں کہ ہے، رکھا سن سے شروع نے آپ جو ہے پیغام وہ یہی کیونکہ

- 12 οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν, καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν  
 نہ جیسے قائل سے شریر کے اور تھا، قتل کیا اور کے بھائی  
[G3756](#) [G2531](#) [G2535](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4190](#) [G1510](#) [G2532](#) [G4969](#) [G3588](#) [G0080](#)
- αὐτοῦ; καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν? ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν;  
 اپنے؛ اور کس لیے کس کس قتل کیا اُسے؟ کیونکہ کے کام اُس کے برے  
[G0846](#) [G2532](#) [G5484](#) [G5101](#) [G4969](#) [G0846](#) [G3754](#) [G3588](#) [G2041](#) [G0846](#) [G4190](#) [G1510](#)
- τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, δίκαια.  
 کے لیکن کے بھائی اُس کے، راست۔  
[G3588](#) [G1161](#) [G3588](#) [G0080](#) [G0846](#) [G1342](#)

کا بھائی جبکہ تھا بُرا کام کا اُس کہ لئے اس کیا؟ کیوں قتل کو اُس نے اُس اور کیا۔ قتل کو بھائی اپنے نے جس اور تھا کا ابلیس جو ہوں، نہ طرح کی قابیل تھا۔ راست کام

- 13 [καὶ] Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.  
 اور نہ حیران ہو، بھائیوں، اگر نفرت کرتی ہے تم سے دنیا۔  
[G2532](#) [G3361](#) [G2296](#) [G0080](#) [G1487](#) [G3404](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2889](#)

جائیں۔ ہو نہ توحیران ہے کرتی نفرت سے آپ دنیا جب بھائیوں، چنانچہ

- 14 ἡμεῖς οἶδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν, ὅτι  
 ہم جانتے ہیں کہ منتقل ہوئے ہیں سے موت میں کی زندگی، کیونکہ  
[G1473](#) [G1492](#) [G3754](#) [G3327](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2288](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2222](#) [G3754](#)
- ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς. ὁ μὴ ἀγαπῶν, μένει ἐν τῷ θανάτῳ.  
 محبت کرتے ہیں کے بھائیوں۔ کا نہ محبت کرنے والا، میں رہتا ہے موت۔  
[G0025](#) [G3588](#) [G0080](#) [G3588](#) [G3361](#) [G0025](#) [G3306](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2288](#)

نہیں محبت جو ہیں۔ رکھتے محبت سے بھائیوں اپنے ہم کہ ہیں جانتے لئے اس یہ ہم ہیں۔ گئے ہو داخل میں زندگی کر نکل سے موت ہم کہ ہیں جانتے تو ہم ہے۔ میں حالت کی موت تک اب وہ رکھتا

15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀνθρωποκτόνος ἐστίν; καὶ οἶδατε  
 ہر کا- نفرت-کرنے-والا بھائی کے- اپنے، قاتل اور ہے؛ جانتے-ہو  
[G3956](#) [G3588](#) [G3404](#) [G3588](#) [G0080](#) [G0846](#) [G0443](#) [G1510](#) [G2532](#) [G1492](#)

ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος, οὐκ ἔχει ζῶν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν.  
 کہ ہر قاتل، نہیں رکھتا زندگی ابدی میں اُس رہتی۔  
[G3754](#) [G3956](#) [G0443](#) [G3756](#) [G2192](#) [G2222](#) [G0166](#) [G1722](#) [G0846](#) [G3306](#)

رہتی۔ نہیں زندگی ابدی میں اُس ہے قاتل جو کہ ہیں جانتے آپ اور ہے۔ قاتل وہ ہے رکھتا نفرت سے بھائی اپنے بھی جو

16 Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν  
 میں اس میں جانا-ہے کی- محبت، کہ اُس نے کے- لیے ہمارے کی- جان  
[G1722](#) [G3778](#) [G1097](#) [G3588](#) [G0026](#) [G3754](#) [G1565](#) [G5228](#) [G1473](#) [G3588](#) [G5590](#)

αὐτοῦ ἔθηκεν; καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν, τὰς ψυχὰς θεῖναι.  
 اپنی رکھی؛ اور ہم چاہیے کے- لیے کے- بھائیوں، کو جانیں رکھیں۔  
[G0846](#) [G5087](#) [G2532](#) [G1473](#) [G3784](#) [G5228](#) [G3588](#) [G0080](#) [G3588](#) [G5590](#) [G5087](#)

دی۔ جان اپنی خاطر کی بھائیوں اپنے کہ ہے یہی فرض بھی ہمارا اور دی۔ دے جان اپنی خاطر ہماری نے مسیح کہ ہے جانا کو محبت نے ہم ہی سے اس

17 ὁ δ' ἂν ἔχη τὸν βίον τοῦ κόσμου, καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν  
 جو لیکن کچھ رکھتا-ہو کی- دولت دنیا، اور دیکھے کے- بھائی  
[G3739](#) [G1161](#) [G0302](#) [G2192](#) [G3588](#) [G0979](#) [G3588](#) [G2889](#) [G2532](#) [G2334](#) [G3588](#) [G0080](#)

αὐτοῦ χρειαν ἔχοντα, καὶ κλείση τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ' αὐτοῦ, πῶς  
 اپنے ضرورت رکھتے، اور بند-کرے کی- ترس اپنی سے اُس، کیسے  
[G0846](#) [G5532](#) [G2192](#) [G2532](#) [G2808](#) [G3588](#) [G4698](#) [G0846](#) [G0575](#) [G0846](#) [G4459](#)

ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ?  
 کی- محبت کے- خدا رہتی-ہے میں اُس؟  
[G3588](#) [G0026](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3306](#) [G1722](#) [G0846](#)

سکتی رہ قائم طرح کس محبت کی اللہ میں اُس تو کرے نہ رحم کر دیکھ کو حالت مند ضرورت کی بھائی اپنے وہ اور ہوں ٹھیک حالات مالی کے کسی اگر ہے؟

18 Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ, μηδὲ τῇ γλώσση, ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ  
 بچوں، نہ محبت-کریں کلام-سے، نہ-اور کے- زبان، بلکہ میں عمل اور  
[G5040](#) [G3361](#) [G0025](#) [G3056](#) [G3366](#) [G3588](#) [G1100](#) [G0235](#) [G1722](#) [G2041](#) [G2532](#)

ἀληθείᾳ.  
 سچائی۔  
[G0225](#)

ہو۔ حقیقی اور عملی محبت ہماری بلکہ کریں نہ اظہار کا محبت سے باتوں اور الفاظ ہم آئیں بچو، پیارے

19 [καὶ] ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν  
 [اور] میں اس میں جانیں-گے کہ سے- کی- سچائی ہیں، اور کے- سامنے  
[G2532](#) [G1722](#) [G3778](#) [G1097](#) [G3754](#) [G1537](#) [G3588](#) [G0225](#) [G1510](#) [G2532](#) [G1715](#)

αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν,  
 اُس-کے تسلی-دیں-گے کے- دل ہمارے،  
[G0846](#) [G3982](#) [G3588](#) [G2588](#) [G1473](#)

ہیں سکتے دے تسلی کو دل اپنے ہم ہی یوں اور ہیں، سے طرف کی سچائی ہم کہ ہیں لیتے جان ہم سے اس غرض

20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκη ἡμῶν ἡ καρδιά, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς  
 کہ اگر ملامت-کرے ہمارا کا- دل، بڑا ہے کا- خدا  
[G3754](#) [G1437](#) [G2607](#) [G1473](#) [G3588](#) [G2588](#) [G3754](#) [G3173](#) [G1510](#) [G3588](#) [G2316](#)

τῆς καρδίας ἡμῶν, καὶ γινώσκει πάντα.  
 دل سے- دل ہمارے، اور ہے- جانتا ہے سب۔  
[G3588](#) [G2588](#) [G1473](#) [G2532](#) [G1097](#) [G3956](#)

ہے۔ جانتا کچھ سب اور ہے بڑا سے دل ہمارے اللہ کیونکہ ہے۔ ٹھہراتا مجرم ہمیں وہ جب

21 Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδιά «μὴ καταγινώσκη», παρρησίαν ἔχομεν  
 پیاروں، اگر کا- دل ہمارا نہ ملامت-کرے، دلیری ہیں رکھتے-ہیں  
[G0027](#) [G1437](#) [G3588](#) [G2588](#) [G1473](#) [G3361](#) [G2607](#) [G3954](#) [G2192](#)

πρὸς τὸν Θεόν,  
 کے- نزدیک خدا،  
[G4314](#) [G3588](#) [G2316](#)

ہیں سکتے آ حضور کے اللہ ساتھ کے اعتماد پورے ہم تو ٹھہراتا نہیں مجرم ہمیں دل ہمارا جب عزیزو، اور

22 καὶ ὁ ἐὰν αἰτῶμεν, λαμβάνομεν ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ  
 اور جو اگر مانگیں، پاتے-ہیں سے- اُس، کیونکہ کے- احکام اُس-کے  
[G2532](#) [G3739](#) [G1437](#) [G0154](#) [G2983](#) [G0575](#) [G0846](#) [G3754](#) [G3588](#) [G1785](#) [G0846](#)

τηροῦμεν, καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ, ποιοῦμεν.  
 مانتے-ہیں، اور کو- پسندیدہ کے- سامنے اُس، کرتے-ہیں۔  
[G5083](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0701](#) [G1799](#) [G0846](#) [G4160](#)

ہے۔ پسند اُسے جو ہیں کرتے کچھ وہی اور ہیں چلتے پر احکام کے اُس ہم کیونکہ ہیں۔ مانگتے سے اُس جو ہیں پاتے کچھ وہ اور

23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ  
 اور یہ ہے کا- حکم اُس-کا، تاکہ ایمان-لائیں کے- نام کے-  
[G2532](#) [G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1785](#) [G0846](#) [G2443](#) [G4100](#) [G3588](#) [G3686](#) [G3588](#)

Υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν  
 بیٹے اُس-کے، یسوع مسیح، اور محبت-کریں اور ایک-دوسرے-سے، جیسے دیا حکم  
[G5207](#) [G0846](#) [G2424](#) [G5547](#) [G2532](#) [G0025](#) [G0240](#) [G2531](#) [G1325](#) [G1785](#)

ἡμῖν.  
 ہمیں۔  
[G1473](#)

تھا۔ دیا حکم ہمیں نے مسیح طرح جس رکھیں، محبت سے دوسرے ایک کر لا ایمان پر نام کے مسیح عیسیٰ فرزند کے اُس ہم کہ ہے حکم یہ کا اُس اور

24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν  
 اور کا- ماننے-والا کے- احکام اُس-کے، میں اُس میں رہتا-ہے، اور وہ میں  
[G2532](#) [G3588](#) [G5083](#) [G3588](#) [G1785](#) [G0846](#) [G1722](#) [G0846](#) [G3306](#) [G2532](#) [G0846](#) [G1722](#)

αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ  
 اُس- اور میں میں اس جانتے-ہیں کہ میں رہتا-ہے میں ہم، سے- کے-  
[G0846](#) [G2532](#) [G1722](#) [G3778](#) [G1097](#) [G3754](#) [G3306](#) [G1722](#) [G1473](#) [G1537](#) [G3588](#)

Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.  
 روح جو ہمیں دیا۔  
[G4151](#) [G3739](#) [G1473](#) [G1325](#)

اُس جو سے وسیلے کے روح اُس ہے؟ بستہ میں ہم وہ کہ ہیں لیتے جان طرح کس ہم میں۔ اُس اللہ اور ہے بستہ میں اللہ وہ ہے رہتا تابع کے احکام کے اللہ جو ہے۔ دیا ہمیں نے